

## Press Release

April 10, 2018

ایس ای سی پی نے مزید عالمی شرعی مالیاتی معیارات عوامی مشاورت کے لئے جاری کردئے

اسلام آباد (10 اپریل 10) سیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے بین الاقوامی ادارے اکاؤنٹنگ اینڈ آرگنائزیشن آف اسلامک فنانشل انسٹی ٹیوشنز کے متعین کردہ سات مزید مالیاتی شرعی معیارات عوامی مشاورت کے لئے جاری کردئے ہیں۔ اب تک ایس ای سی پی اسلامی مالیاتی کمپنیوں سے متعلق AAOIFI کے سات معیارات پہلے ہی نافذ کر چکا ہے۔ ایس ای سی پی کے نئے جاری کردی معیارات میں فنانشل پیپر (شمیر اینڈ بانڈز) سے متعلق AAOIFI سٹینڈرڈ نمبر 21، انڈکس سے متعلق شریعہ سٹینڈرڈ نمبر 27، توارق سے متعلق سٹینڈرڈ نمبر 30، لیکویڈٹی کے استعمال سے متعلق سٹینڈرڈ نمبر 44، انوسٹمنٹ ایجنسی کے حوالے سے سٹینڈرڈ نمبر 46 اور ضمانت سے متعلق شرعی سٹینڈرڈ نمبر 53 شامل ہیں۔

پاکستان میں اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ اور اس کے معیارات میں بہتری کے لئے ایس ای سی پی تسلسل سے اقدامات کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ایس ای سی پی مرحلہ وار اسلامی فنانشل اداروں کے بین الاقوامی تنظیم کے منظور شدہ معیارات نافذ کر رہا ہے۔ اسلامی مالیاتی نظام کے لئے اکاؤنٹنگ اور آڈٹنگ کے لئے AAOIFI کے مالیاتی معیارات دنیا میں بیچ مارک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلامی مالیاتی نظام کے بین الاقوامی معیارات کو مقامی اسلامی مالیاتی خدمات فراہم کرنے والے اداروں میں کامیابی کے ساتھ متعارف کروانے کے لئے ایس ای سی پی عالمی معیارات مقرر کرنے والے بین الاقوامی اداروں اور مقامی کمپنیوں کے ساتھ مشاورت کا عمل مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ ملک میں اسلامی مالیاتی نظام کی اہمیت اور بڑھتی ہوئی کودیکھتے ہوئے ایس ای سی پی نے اکاؤنٹنگ اور آڈٹنگ کے عالمی معیارات کے نفاذ کا عمل تیز کر دیا ہے۔ ایس ای سی پی کے شریعہ ایڈوائزی بورڈ نے گزشتہ ہفتے ہونے والے اجلاس میں مزید شرعی معیارات کو نافذ کرنے کی منظوری دی تھی۔ دلچسپی رکھنے والے افراد ان معیارات کے جاری ہونے کے بعد چودہ دن کے اندر اندر اپنی آراء اور تجاویز سے کمیشن کو آگاہ کر سکتے ہیں۔

رواں سال فروری میں ایس ای سی پی نے اسلامی مالیاتی کمپنیوں کے لئے صکوک سرمایہ کاری، تحویل (قبض) اور بلا معاوضہ خدمات فراہم کرنے والے ایجنٹوں کے کردار (الفضولی) کے لئے تجویز کردہ شرعی معیارات نمبر 17، 18 اور 23 کے نافذ العمل ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایس ای سی پی نے 2005، 2017، اور 2013 میں اسلامی مالیاتی اداروں کے لئے تین معیارات جاری کئے تھے جو کہ مراہجہ، اجراء اور نفع اور نقصان کی تقسیم سے متعلق تھے۔ جبکہ جنوری 2016 میں قرض دہندہ کی جانب سے قرض کی ادائیگی میں ناکامی، مراہجہ، اجراء اور مضاربہ سے متعلق چار مزید معیارات نافذ کئے تھے۔